



قومی خواتین کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ میں اپنے سفر کا اختتام جیت سے کرنے کی خواہشمند

- آسٹریلوی پچز پر باؤلنگ کالطف اٹھایا، بہتر ردھم اور مؤثر حکمت عملی کے باعث اچھی باؤلنگ کی، ڈیانا بیگ

لاہور، 2 مارچ 2020ء:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں اپنا آخری گروپ میچ منگل کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سڈنی کے شوگر اوونڈ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت سے ایونٹ میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والی قومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ اور جنوبی افریقہ سے شکست کے باعث سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔

گروپ بی سے جنوبی افریقہ اور انگلینڈ نے ایونٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے لہذا پاکستان اور تھائی لینڈ کی ویمنز ٹیموں کے مابین میچ سیمی فائنل میں رسائی کی جنگ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

دوسری طرف قومی خواتین کرکٹ ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے کے باوجود تھائی لینڈ کے خلاف میچ میں عمدہ کھیل پیش کر کے ایونٹ میں اپنے سفر کا اختتام جیت سے کرنے کی خواہشمند ہے۔

ایونٹ کے دوران قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی چند کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں ڈیانا بیگ کا نام قابل ذکر ہے۔ فاسٹ باؤلر ڈیانا بیگ نے میگا ایونٹ کے تینوں میچوں میں شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے تین میچوں میں 12.80 کی اوسط اور 5.33 کے اکانومی ریٹ کے ساتھ 5 وکٹیں حاصل کیں۔

فاسٹ باؤلر تھائی لینڈ کے خلاف میچ میں بھی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔

ڈیانا بیگ:

ڈیانا بیگ کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کو شکست دینے کے باوجود ایونٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل نہ کرنے پر مایوسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم تھائی لینڈ کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ایونٹ میں اپنے سفر کا اختتام جیت سے کرنا چاہتے ہیں۔

فاسٹ باؤلر نے کہا کہ انہوں نے آسٹریلوی پچز پر باؤلنگ کا بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ردھم اور مؤثر حکمت عملی کے باعث وہ نئی گیند سے بھی اچھی باؤلنگ کر رہی تھیں۔

ڈیانا بیگ نے کہا کہ وہ منگل کے روز بہتر کارکردگی دکھا کر قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو فتح دلانے کی کوشش کریں گی۔

دوسری طرف ایمن انور تاحال ایونٹ میں 6 وکٹیں حاصل کر کے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی بہترین باؤلر ہیں مگر 17.50 کی اوسط سے وکٹیں حاصل کرنے والی ایمن انور کا اکانومی ریٹ 8.75 ریکارڈ کیا گیا ہے۔

ادھر جویریہ خان 82 اسکور کے ساتھ تاحال ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر ہیں۔ عالیہ ریاض نے 80 رنز بنائے ہیں۔

اسکوڈ:

جویریہ خان (کپتان)، ایمن انور، عالیہ ریاض، انعم امین، عائشہ نسیم، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، ارم جاوید، ناہیدہ خان، منیبہ علی، ندا ڈار، عمیمہ سہیل، سعدیہ اقبال، سدرہ نواز (وکٹ کیپر) اور سیدہ عروب شاہ۔

آفیشلز:

سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، سلیم جعفر (باؤلنگ کوچ)، عامر اقبال (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹجی اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو)، عائشہ جلیل (منیجر) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

شیڈول:

3 مارچ بروز منگل: پاکستان ویمنز بمقابلہ تھائی لینڈ ویمنز بمقام سڈنی

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4